

## Corby Muslim Association

Charity reg number: 1148796

3.45

33 Stuart Rd Corby Northants NN17 1RL

Prayer time Hiiri : 1439 Ramadhan 2018

Ramadhan	Day	Date	Sehri ends	Fajar Jamat	Sunrise	Zuhor begin	Jamat	Asr begin	Jamat	Magrib iftar	Jamat time	Isha begin	jamat
	Tue	may 15	3:28	3:43	5:12	01:08	1:30	6:17	7:15	8:59	9:04	10:10	11:30
1	Wed	16	3:27	3:42	5:11	01:08	1:30	6:18	7:15	9:01	9:06	10:11	11:30
2	Thu	17	3:25	3:40	5:09	01:08	1:30	6:19	7:15	9:02	9:07	10:12	11:30
3	Fri	18	3:24	3:39	5:08	01:08	1:30	6:20	7:15	9:04	9:09	10:13	11:30
4	Sat	19	3:23	3:38	5:05	01:08	1:30	6:20	7:15	9:05	9:10	10:15	11:30
5	Sun	20	3:20	3:35	5:04	01:08	1:30	6:21	7:15	9:07	9:12	10:17	11:30
6	Mon	21	3:19	3:34	5:02	01:08	1:30	6:22	7:15	9:08	9:13	10:18	11:30
7	Tue	22	3:17	3:32	5:01	01:08	1:30	6:22	7:15	9:10	9:15	10:21	11:30
8	Wed	23	3:16	3:31	5:00	01:08	1:30	6:22	7:15	9:12	9:17	10:22	11:30
9	Thu	24	3:14	3:29	4:59	01:08	1:30	6:23	7:15	9:13	9:18	10:24	11:30
10	Fri	25	3:13	3:28	4:58	01:08	1:30	6:23	7:15	9:15	9:20	10:25	11:30
11	Sat	26	3:11	3:26	4:57	01:08	1:30	6:23	7:15	9:17	9:22	10:27	11:30
12	Sun	27	3:10	3:25	4:56	01:08	1:30	6:23	7:15	9:18	9:23	10:28	11:30
13	Mon	28	3:09	3:24	4:54	01:08	1:30	6:24	7:15	9:18	9:23	10:29	11:30
14	Tue	29	3:07	3:22	4:53	01:08	1:30	6:24	7:15	9:19	9:24	10:30	11:30
15	Wed	30	3:06	3:21	4:53	01:08	1:30	6:24	7:15	9:20	9:25	10:31	11:30
16	Thu	31	3:05	3:20	4:49	01:08	1:30	6:24	7:15	9:21	9:26	10:35	11:30
17	Fri	1	3:03	3:18	4:48	01:09	1:30	6:25	7:15	9:23	9:28	10:36	11:30
18	Sat	2	3:02	3:17	4:47	01:10	1:30	6:25	7:15	9:24	9:29	10:37	11:30
19	Sun	3	3:01	3:16	4:46	01:10	1:30	6:25	7:15	9:25	9:30	10:38	11:30
20	Mon	4	3:00	3:15	4:45	01:10	1:30	6:25	7:15	9:26	9:31	10:39	11:30
21	Tue	5	2:59	3:14	4:45	01:10	1:30	6:25	7:15	9:27	9:32	10:40	11:30
22	Wed	6	2:58	3:13	4:44	01:10	1:30	6:26	7:15	9:28	9:33	10:41	11:30
23	Thu	7	2:57	3:12	4:44	01:10	1:30	6:26	7:15	9:28	9:33	10:41	11:30
24	Fri	8	2:56	3:11	4:44	01:11	1:30	6:26	7:15	9:29	9:34	10:43	11:30
25	Sat	9	2:55	3:10	4:44	01:11	1:30	6:26	7:15	9:30	9:35	10:44	11:30
26	Sun	10	2:55	3:10	4:43	01:11	1:30	6:27	7:15	9:31	9:36	10:46	11:30
27	Mon	11	2:55	3:10	4:43	01:11	1:30	6:27	7:15	9:31	9:36	10:46	11:30
28	Tue	12	2:54	3:09	4:43	01:11	1:30	6:27	7:15	9:32	9:37	10:47	11:30
29	Wed	13	2:54	3:09	4:43	01:11	1:30	6:27	7:15	9:33	9:38	10:47	11:30
30	Thu	14	2:53	3:08	4:42	01:11	1:30	6:28	7:15	9:33	9:38	10:47	11:30

**Dua for Sehri**

**Eid Jamat:**

**Dua for Iftar**

روزہ رکھنے کی نیت  
**وَبَصُومِ غَدٍ تَوْبَتٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ**  
 میں نے رمضان کے اس روزے کی نیت کی  
 'I intend to keep the fast  
 for the month of ramadan'

**9:30am**

روزہ رکھنے کی نیت  
**اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ لَمِنَ صُفْتِ وَبِكَ الْعَسْتُ وَغَلَبْتُ نَوَكْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ الْفَطْرُنُ**  
 اے اللہ میں نے تیرا روزہ رکھا ہے اور میں تیرا روزہ رکھ رہا ہوں اور میرا روزہ رکھنا ہے اور میرا روزہ رکھنا ہے  
 'O Allah! I fasted for You and I believe in You (and I put my trust in you)  
 and I break my fast with Your sustenance'

Sadaaqa-Al-Fitr: £5.00 per person

Contact Number,

Chairman: 07733787271

Secretary: 07733787079